

AGA KHAN UNIVERSITY EXAMINATION BOARD

SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE

CLASS X EXAMINATION

MAY 2012

Physics Paper I

Time allowed: 35 minutes Marks 25

### ہدایات


- 1 ہر سوال کو غور سے پڑھیے۔
- 2 جوابات کے ورق پر جوابات دیکھیے جو علیحدہ مہیا کیا گیا ہے۔ اپنے جوابات، سوالات کے پرچے پر ہر گز نہ لکھیے۔
- 3 جوابات کے ورق پر 100 تک نمبر دیے گئے ہیں۔ آپ 1 سے 25 نمبر تک ہی جوابات دیکھیے۔
- 4 ہر سوال کے چار اختیارات (options) A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منتخب کیجیے۔ پھر جوابات کے صفحے میں متعلقہ دائرے کو پنسل سے بھر دیجیے جیسا کہ نیچے دکھایا گیا ہے۔

Correct Way	Incorrect Ways
1 <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D	1 <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="radio"/> D
2 <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D	2 <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D
3 <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="radio"/> D	3 <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D
4 <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input checked="" type="radio"/> D	4 <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D


### امیدوار کے وستخط

- 5 اگر آپ اپنا جواب بدلا چاہیں تو پہلے والے جواب کو مکمل طور پر بریٹ سے مٹا دیجیے پھر نئے دائرے کو بھر دیے۔
- 6 جوابات کے صفحے میں کچھ نہ لکھیے۔ کمپیوٹر صرف بھرے ہوئے دائروں کو ریکارڈ کرے گا۔
- 7 اگر آپ چاہیں تو سادہ کیلو لیٹر استعمال کر سکتے ہیں۔

-1 درج ذیل پنڈولموں میں سے کس کا دوری وقفہ (time period) سب سے کم ہے؟



-2 درج ذیل موج میں تیرکا نشان ظاہر کرتا ہے



- A نشیب (trough) کو۔
- B حیطہ (amplitude) کو۔
- C طول موج (wavelength) کو۔
- D ہٹاؤ (displacement) کو۔


-3 چار مرتعش اجسام آواز پیدا کر رہے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سا جسم زور دار آواز پیدا کرے گا؟

مرتعش کا حیطہ	مرتعش جسم کا رقبہ	جسم	
4 cm	$5 \text{ m}^2$	X <sub>1</sub>	A
4 cm	$6 \text{ m}^2$	X <sub>2</sub>	B
1 cm	$10 \text{ m}^2$	X <sub>3</sub>	C
5 cm	$10 \text{ m}^2$	X <sub>4</sub>	D


-4 سونار سسٹم (sonar system) سمندر کے نیچے خزانے تلاش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ درج ذیل میں سے کون سی شے اس سونار سسٹم میں استعمال ہوتی ہے؟

- A ای-ای-جی (E.E.G)
- B ایکس-ریز (X-rays)
- C سی-ٹی اسکین (C.T scan)
- D الٹراساؤنڈ (Ultrasound)


-5 اگر ایک سادہ آئینے کی ہموار سطح پر ایک روشنی کی شعاع پڑتی ہے، تو اس کا زاویہ وقوع (angle of incidence) یہ ہو گا۔




-6 اگر دی ہوئی شکل میں زاویہ وقوع (angle of refraction) ( $\angle r$ ) کا زاویہ انعطاف (angle of incidence) ( $\angle i$ ) 40° ہو تو اس کا زاویہ انعطاف ہو گا۔



-7 اگر تکبیر (magnification) 1 ہو تو اس کی شبیہ (image) کہاں بنے گی؟




8۔ درج ذیل میں ایک دور کے جسم کی شبیہ کا مقام دکھایا گیا ہے جو ایک آنکھ نے بنایا ہے۔ درج ذیل میں سے کون سی صورت اس کی درست نقص اور علاج کو ظاہر کرتی ہے؟




علاج	نقص	
محب (convex) عدسے کا استعمال	بعید نظری (long sightedness)	A
مقرر (concave) عدسے کا استعمال	بعید نظری	B
محب آئینے کا استعمال	قریب نظری (short sightedness)	C
مقرر آئینے کا استعمال	قریب نظری	D


9۔ ایک منفی طور پر چارج کی ہوئی دھاتی سلاخ ایک بے بار (neutral) جسم کے قریب لائی جاتی ہے۔ درج ذیل شکلوں میں سے کون سی برق سکونی امال (electrostatic induction) کے مطابق ہے۔




(A)



(B)




(C)



(D)

10۔ اگر دو متوازی پلیٹوں والے کیسپسٹر جن میں سے ہر ایک کی گنجائش ( $\mu\text{F}$ ) capacity 3 ہو ایک 50 V کی بیٹری کے ساتھ سلسلے وار طریقے سے جوڑے جائیں تو ان میں کتنا چارج جمع ہو گا؟



-A  $7.5 \times 10^{-5}$  کولمب

-B  $1.50 \times 10^{-4}$  کولمب

-C  $3.00 \times 10^{-4}$  کولمب

-D  $4.50 \times 10^{-4}$  کولمب

-11 درج ذیل میں سے کون سا اوہم کے قانون کے مطابق ہے؟

V	I	R	
2 V	4 A	2 $\Omega$	A
2 V	4 A	8 $\Omega$	B
10 V	0.5 A	20 $\Omega$	C
10 V	5 A	50 $\Omega$	D

-12 تھرمسٹر (thermistor) کے درجہ حرارت کو بڑھانے سے اس کی مزاحمت (resistance) پر کیا اثر ہو گا؟

- I اگر درجہ حرارت بڑھایا جائے تو اس کی مزاحمت بھی بڑھے گی
- II اگر درجہ حرارت بڑھایا جائے تو اس کی مزاحمت کم ہو گی
- III اگر درجہ حرارت کم کیا جائے تو اس کی مزاحمت بھی کم ہو گی۔
- IV مزاحمت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا

- |     |         |    |
|-----|---------|----|
| II  | I اور   | -A |
| II  | صرف     | -B |
| III | صرف     | -C |
| IV  | اور III | -D |

-13 فیلمنگ کے بائیں ہاتھ کے قاعدے کے مطابق، انگوٹھا ظاہر کرتا ہے

- A قوت کو۔
- B ٹارک کو۔
- C مقناطیسی میدان (magnetic field) کو۔
- D برقی رو (electric current) کو۔

-14 درج ذیل تمام عوامل ایسی ایم ایف (induced emf) کی قیمت کو متاثر کرنے والے ہیں سوائے

- A برقی سرکٹ میں مزاحمت کے
- B موصل میں سے گزرنے والے کرنٹ کے
- C میدان میں موصل کی اسپیڈ کے
- D میدان میں حرکت کرنے والے موصل کی لمبائی کے

-15-

ایک ٹرانسفارمر میں لوہے کی کور (iron core) کا مقصد ہوتا ہے

A- اسے زیادہ برق متنا طیسی (electromagnetic) بنانا۔


B- پرائمری وائندنگ کو سینڈری وائندنگ سے علیحدہ کرنا۔

C- پرائمری سے سینڈری وائندنگ میں کرنٹ کو پہنچانا۔

D- وائندنگ کے ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ میں متنا طیسی فلکس کو پہنچانا۔

-16-

درج ذیل شکل میں مقام 3 پر کس آ لے کو دکھایا گیا ہے؟



A- مزاحمت کو


B- کیمپسیٹر کو

C- جزبیٹر کو

D- ٹرانسفارمر کو

-17-

اگر گین کنٹرول (gain control) 2 V/cm پر ہوتا ہے تو گئی شکل میں پیک ولت (peak voltage) ہو گا۔



A- 1 ولٹ

B- 2 ولٹ

C- 3 ولٹ

D- 4 ولٹ

-18-

درج ذیل ٹرٹھ ٹیبل (truth table) میں دکھائے گئے گیت (gate) کا نام ہے

آؤٹ پٹ	إن پٹ	
1	0	0
1	1	0
1	0	1
0	1	1

A- آر (OR)

B- اینڈ (AND)

C- نار (NOR)

D- نینڈ (NAND)

-19 درج زیل تمام اطلاعات (information) اور ابلاغ (communication) کی ٹکنالوژی کے اجزاء ہیں سوائے

- A ڈیٹا کے سافٹ ویئر کے ہارڈ ویئر کے پاور سپلائی کے
- B
- C
- D


-20 درج زیل تمام آلات اطلاعات کو جمع کرنے والے ہیں سوائے

- A بیٹری کے۔
- B ہارڈ ڈسک کے۔
- C فلیش ڈرائیو کے۔
- D آڈیو کیسٹ کے۔


-21 درج زیل میں سے کون ساتا بکار عنصر (radioactive element) کہلاتا ہے؟

- A سینتھیم
- B یورنیم
- C میگنیٹیم
- D جرمینیم


-22 درج زیل شکلوں میں سے کون سی گاما شعاعوں (gamma rays) کے اخراج کو ظاہر کرتی ہے؟




(A)



(B)




(C)





(D)


23۔ درج ذیل مساوات  $^{238}_{92}U$  کے زوال (decay) کو ظاہر کرتی ہے۔



درج ذیل مرکزوں (nuclides) میں سے کون سا X کا مقابل ہے؟



24۔ درج ذیل مساوات میں x اور y کی کیا قیمتیں ہوں گی؟



y	x	
233	90	A
234	90	B
233	91	C
234	91	D

25۔ درج ذیل ہم جاؤں (isotopes) میں سے کس میں پروٹونوں اور نیوٹرونوں کی تعداد برابر ہے؟

